

بُولس فیستووس سُوری و هاکمَتے

Buulus Feestoozi suurii whaakamamti

⁰¹ مَهِي إِمْبِا وَهَاشِ إِنْيَنَةِ هَرَاءِ، فِيْسِتُوسْ هَاكِمِ إِكَايِتْ قِيسِرِيَايِي
اوْرَشَلِيمِ الْقَدِيسِ اِبَرِيْسِ.

⁰² بِينْتُويِ اِفْقِيرِيَايِي هَدَأَيِ هَدَأَوَةِ، يَهُودَيِ اِنْقَرْمَةِ قَلْوَةِ
بُولسِ قُوبَ سُورِيَانِ. مَسِيْسِ فِيْسِتُوسْ أَرَانْيَانِ،

⁰³ بُولس اوْرَشَلِيمِ الْقَدِيسِ هَايِ يَابِنِيَّيْتِ تُونَةِ هَوِيِ يَهَرُونَةِ. بَرَاهِ
تُونَةِ بَرِيَّوَهِ هَايِ يَهَرُونَيْتِ أَسَبَبِ، بُولسِ أَسَلَّيْبِ ثَابِيَّتِ
إِيدِرِنِيَّتِ يَهَرُونَةِ.

⁰⁴ لَاكِينِ فِيْسِتُوسْ بَرِيَّوَهِ دَهَائِي «بُولس قِيسِرِيَايِي دَائِيِي اِنْدَهِ،
أَنَّهِ هَنَّ وَلَتِ بِينْتُويِ اِيدِفِ اِنْدَهِ.

⁰⁵ بَرُوهِ مَاقْتِ قُوبَابِ إِكْتَيِّيَّكِ، يَابِقِرِ ماِيَاكَنَةِ قَبِيُّو بَقِيقِينِ، بِينْتُويِ
أَرَى بَرُوهِ بَقَادِيْسِمِينِ». اِدَهِ.

⁰⁶ فِيْسِتُوسْ قِيسِرِيَّابِ بِالْأَقْارِ أَكَايِ، اوْرَشَلِيمِ الْقَسِيبِ أَشَّتَّفَتِ
تَرَهِ تَمِنْتِ بِينَاتِ إِسَّاً. مَلِيَّةِ اُومِبِا اوْرَاهِ أَفَادِهِ مَهِينُوسِ إِسَّاً،
بُولسِ ثُمَهاكَمَهِ هَايِ إِسَّيِّسِيَّةِ.

⁰⁷ بُولسِ ثُمَهاكَمَاتِبِ إِبِيَّنْهُوبِ، يَهُودَيِ اِنْقَرْمَةِ اوْرَشَلِيمِ
الْقُدُّسِيِّ يَابِ بَرُوهِ إِكْوَلَنَةِ إِسَّاَيَّتِ، بُولسِ قُودَةِ أَكْرَهِ قُوبَابِ قُوبَابِ
إِيكَتِيَّيْتِ تُونَةِ سُورِيَانِ. لَاكِينِ نَاتِ هَنَّ سِدِكِيَّتِ بَدَهَهِ كِيرَيِّنِ.

⁰⁸ مَلِيَّةِ بُولسِ أَقْرَوْيُوسْ هَبُوَّبِ بَهَلِيَّةِ «أَنَّهِ أَدَهِيُونِ إِيرِبِينَةِ
دِيَابِ كَاكِيَّ. مَسِيْسِ أَكْوَاسِتَيِّ قَوَّهِ كَهِيِ تَرَهِ مَاقْنِيَّاتِ دِيَابِ كَاكِيَّ». اِدَهِ.

⁰⁹ فِيْسِتُوسْ اِيَّهُودَيِ اَفَرِهَسْتَيِيِيَّهِ اَكَايِ «تَيِّنِ تَنَاتِيَّبِ أَنَّهِ
هَاكَمَنِيَّرِكِ جَلَّاَيِ اوْرَشَلِيمِ الْقَدِيسِيِّ مَبَيِّنِ دَهَائِي اَمَارَوَهِ؟» اِدَهِ.

¹⁰ بُولس «أَنَّهِ أَقِيسِرِيَّتِ مَهَاكَمَاتِبِ هَاكَمَمَنِ اِيفِيِّ، تَوِيِي
أَرَى إِبِكِيِي هَوِيِ هَاكَمَمَنِيَّتِ تُونَاتِيِّ. أَنَّهِ يَهُودَيِي هَاشِيِي كَهِيِي
مَاقْنِيَّاتِ دِيَابِ بَاكَلِيَّتِ تُونَةِ بَرُوكِ تَكَتِيَّنِهِ.

⁰¹ Mhay imb'i whaash eeyana har'i, Feestooos haakim ikaayt Gaysariyaay Oorshaliim Algudis ibi.

⁰² Beentooy ifagiiriyaayi had'aay had'aawwa, Yahuudi eegrima galwa Buulusi gwabab sooyaan. Masi Feestooos araatamiyaan,

⁰³ Buulus Oorshaliim Algudis haay y'iiniyeet toona hooy yhariwna. Baraah toon toona bariyyooh haay yhiriwneeb usabab, Buulus usalaliib thaab'iit iidirneet yhiriwna.

⁰⁴ Laakiin Feestooos bareeyooh dehaay «Buulus Gaysariyaay daayi indi, ani han willa beentooy iidif andi.

⁰⁵ Baruuh maagt gwibbaab ikatiyek, y'eegrimaayaakna geebu bagiigiin, beentooy aree barooh bagaadiisamiin.» idi.

⁰⁶ Feestooos Gaysariyaab baa'agaar akaay, Oorshaliim Algudseeb ashshadhligt tari tamint yiinaat is'a. Malya oomb'i ooraaw ugaadi mhiinoos is'at, Buulus tumhaakama haay eesiisiya.

⁰⁷ Buulus tumhaakamaatiib eeyanhoob, Yahuudi eegrima Oorshaliim Algudsee y'aab barooh ikwilalna is'aniit, Buulus gwida akra gwabab gwibbaab iiktiyeet toona sooyaan. Laakiin naat han sidkiit badeha kiibariin.

⁰⁸ Malya Buulus ugarooyoos habuuyiib bhaliyya «Ani udehayuun iirbeena d'iyaaab kaaki. Masi Ukwaasanaayi gawi kehii tari Gaysari kehii maagnaayt d'iyaaab kaaki.» idi.

⁰⁹ Feestooos Iyahuudi afirhisti yhariw akaay «Teen tinaateeb ani haakamaniyook jillaay Oorshaliim Algudsi mabayee dehaay amaarwa?» idi.

¹⁰ Buulus «Ani Ugaysariit mhaakamaatiib haakamaman eefi, tooy aree ibakii hooy haakamamaniyeet toonaati. Ani Yahuudi haashi kehii maagnaayt d'iyaaab baakaayeet toona baruuk tikteena.

¹¹ أَنْ تَوَيِّتْ أَسْتَهَلِينْ قُرْبَبْ دِيَابْ أَكْتَيْنِكْ، تَوَيِّتْ جَسَةْ هُوَيْ
ذَابِيَّ كَادِيَّ. تِينْ تَمَاقَنِي أَنْ قُوبَبْ كَاكِيَّ، مَاقْتْ هَنْ دِيَابْ
كَاكِيَّ. اُونْ أَوْدَهَيْ هَايِي نُونَنِيَّ هَدَائِيَّتْ إِبْرِيبْ أَرَى كِيهَايِيَّ.
أَنْ شَاوَتْ أَقْيَسَرْ هَاكَمِينِيَّتْ تَوَنَةْ هُوَيْ أَهَرَبِيَّوْ.» إِدَيَّ.

¹² مَلِيَّةْ فِي سَتُوسْ إِنْ إِبْلِيَّ أَمْجَلِسِيَّ دَهْ قِبَبْ إِنْفَرَادْ، مَلِيَّةْ
بُولُسِيَّ دَهَايِيْ «بَزُوكْ أَقْيَسَرْ أَوْكَنَتْ هَاكَمِمَتِيَّ تَهَرُوَةْ، أَفْلَانِيَّ
أَقْيَسَرْ إِبَيَّةْ تَنْدِيَةْ.» إِدَيَّ.

بُولُسْ أَفْرِيَبَاوَةْ بَرَنِيسُوَةْ بَهْلِيسَمِيَّةْ

¹³ شَلِكْتْ بَيْنَاتِيَّ هَرَإِ، وَهَدَأِ أَفْرِيَبَاوَةْ بَرَنِيسُوَةْ فِي سَتُوسْ
رَهِيَّسَمِتْ جَلَّا يَقِيرِيَّابْ إِيَّيَّانِ.

¹⁴ بَرَاه بَيْنَتُويَّ قُورَدَاتْ بَيْنَتْ يَهْفَقْتَةْ. بَيْنَهُوبْ فِي سَتُوسْ بُولُسِيَّ
كَهِي أَتِيَّوْ دِيَابْ إِقْوَبَبْ سَوَيَّةْ. بَرُوهْ «فِيلِيكِسْ تَوِي أَسْجَنِيَّبْ تَكْ
إِشَّابُو،

¹⁵ أَنْ تَأْرِشَلِيمْ أَلْقَدِسْ أَبَا يَهُوبْ، إِفْقِيرِيَّابْ هَدَاؤَةْ يَهُودَهَ
إِيَّقِرْ مَاوَةْ بَرُوهْ قُرْبَبْ أَسْأَبِيَّكِيتْ تَوَنَةْ أَرَاتِمِيَّانِهَبْ.

¹⁶ تَكْ أَوْدَهَيْ هُوَيْ أَشْكِيمِيَّتِبْ، أَقْرِيمِيَّةْ نُونَتِيَّ رَوْمَانِيَّتْ آدَهَ
كِيَكِينْ. هَنَكَةْ إِيَّكِي أَقْرِيمِيَّ سُورِيَّ إِنْدَهَ، مَلِيَّةْ إِقْوَبَبْ بَرُوهْ
إِسْأَبِيَّكِيتْ أَقْرَوْيُوسْ يَهَنِيَّ.

¹⁷ مَلِيَّةْ بَرَاه تَوِي قَيْبُو إِيَّيَّانِهَبْ، ثُقَبِيَّةْ شَاوَتْ أَكْرَابْ كَاكِيَّ.
تَوَيِّبِنْ تَوَرَأَوْ أَقْلَادِيَّتْ تَأْلَاتِيَّبْ أَسَّاتْ، بَرُوهْ وَلِيَكِسَنْ.

¹⁸ لَا كِينْ آنَدَهَ بَرِيَّهَ كَهِي إِقْوَبَبْ مِيَادِيَّبْ أَسَّةْ يَكِيَانِهَبْ، أَنْ
هِيَسِيَّبَبْ إِقْوَبَبْ أَكَانَهَ سَأْبَكَابْ كِيَكِينْ.

¹⁹ بَرَاسَنَهَ مِثَيَّ أَبِيَّنِو سَنَارَةْ تَكْ أَيَابْ يَسُوَا إِيدِنِيَّبْ بُولُسْ نَهَ
ذَهَنِيُّبُو إِيدِيَّبُو، إِنْ بَرِيَّهَ أَمْفُوسِرَةْ إِيفِينْ.

²⁰ أَنْ إِنْ بَرِيَّهَ كَسْتِيَّهَ أَوْ سِدِكْ كَاكِ إِمِرِيَّبْ كَنَابْ كَاكِيَّ.
مَلِيَّةْ بُولُسْ أَوْرِشَلِيمْ أَلْقَدِسْ بَيْتِيَّتْ بَيْنَتُويَّ هَاكَمِمِيَّتْ تَوَنَةْ
أَرَاثَمَنْ.

¹¹ Ani tooyat astehaleen gwabab d'iyaab akatiyeek, tooyati jasa hooy dhaabi kaadi. Teen timaagnay ani gwibbaab kaaki, maagt han d'iyaab kaaki. Oon oodehay haay nuunee ni had'aayeet ibariib aree kiihaay. Ani shaawti Ugaysar haakamamtiib tehariwa, aylaay Ugaysar iiba tindiya!» idi.

¹² Malya Feestoos een ibhali umajlisi da geeb infaraad, malya Buulusii dehaay «Baruu Ugaysar uukna haakamamtiib tehariwa, aylaay Ugaysar iiba tindiya!» idi.

Buulus Agriibaawwa Barniiswa bhaliisamiya

¹³ Shalikt yiinaati har'i, whad'a Agriibaawwa Barniiswa Feestoos rheesamti jillaay Gaysariyaab eeyaan.

¹⁴ Baraah beentooy gwidaat yina yhagıtına. Beenhoob Feestoos Buulusi kehii attiyoodiyaab igwabab sooya. Baruu «Fiiliikis tooy usijniib tak ishaabu,

¹⁵ ani Oorshaliim Algudis abaayhoob, ifagiiriyaayi had'aawwa Yahuudi eegrimalawa barooh gwabab as'abiikeet toona araatamiyanheeb.

¹⁶ Tak uudehay hooy ashkiimeeneeb, ugariimiya nuunti Roomaaniit aada kiikeen. Hanka ibakii ugariimi suurii ingadi, malya igwabab barooh is'abiikneeb ugarooyoos yhanbi.

¹⁷ Malya baraa tooy geetu eeyaanhoob, tugadiya shaawti akkaraab kaaki. Tooyiin tooraaw ugaadiit taawlaatiib as'at, barooh waliiksan.

¹⁸ Laakiin aanda bariyyooh kehii igwabab miyaadiib asa yakiyaanhoob, ani hiisiyeb igwabab akaana s'abkaab kiikeen.

¹⁹ Baraaasna mishi udiiniyoosnaawwa takayaab Yasuu'a iidneeb Buulus na dhhaniibu iideebwa, een bareeyooh amgwasira iifiin.

²⁰ Ani een bareeh kasseyooh oosdik kak imiireeb kanaab kaaki. Malya Buulus Oorshaliim Algudis beetiit beentooy haakamamniyeet toona araataman.

²¹ لاكين بولس أقيسر يابنېت تغااديتوس شمبېب اوكىك او سخن إسهاپس. ملية بروه أقيسر استوبېب اوكىك توی داپېنېت تونة سوین.-» ادے.

²¹ Laakiin Buulus Ugaysar y'eetiit tugaadiyeetoos shambibeeb ookiik oosjin isehaayis. Malya barooh Ugaysar astoobyeeb ookiik tooy daayiiniyet toona soyan.» idi.

²² ملية أقربية فيستوسى دهاي «أون أوڭك إندېيت تونة أنة هن أستىكيرىت أھرىيوا.» ادے. فيستوس «لهىت إيمسو تىدىيە.» ادے

²² Malya Agriiba Feestooosii dehaay «Un uutak indiyet toona ani han asneekiireet aharriiw.» idi. Feestooos «Lhayt iimsaw tindiya.» idi.

²³ تۈپىن تۇرما او أقربياۋە بىرنىسوة تامَرۇيىتە قۇ يالىنەوب، وىتىت ون رەستى كۇاسە ئېفىن. وون ڈىشى دابتابو ئەمدىناتە سۇرگەنە هن بىننۇي ئېفىن. اونتا فيستوس بولس ھاي ئىسىسىيە.

²³ Tooyiin tooraaw Agriibaawwa Barniiswa t'amarlarooysi gaw y'iinhoob, winneet win rhisti kwaasa iifiin. Wawin dheeshi daabtaabwa tumadiinaati suurkina han beentooy iifiin. Oont'a Feestooos Buulus haay eesiisiya.

²⁴ ملية «و هدا أقربياۋە بىبابىكەنە آرۇ، اون اوڭك شىپىنە. يەودىے گىساھ اورشلىم القدىسييە فيستوس يابۇھىب، بىرېيە مەر ارى ھۆسى يېھونە.»

²⁴ Malya «Whad'a Agriibaawwa y'iibaabkina aarawwa, oon ootak shibibna! Yahuudi kassaah Oorshaliim Algudseebwa Gaysariyaawa eeyaanheeb, bariyoo madar aree hoosi yhariwna.

²⁵ اون اوڭك توپىت أستەلەن قۇبىپ ھۆي مراب كاكى. لاكين بروه أقيسر ھاكىمىت تونة يېھرو أکاي رۇماب أستوبىنە ئۇڭرىن.

²⁵ Oon ootak tooyat astehaleen gwabab hooy miraab kaaki. Laakiin baruuuh Ugaysar haakamiyeet toona yhariw akaay Roomaab astoobyeena ankwiin.

²⁶ أقيسرە دهاي اون اوتكىب نات سىدك أكتىبىت توناتە. اون ئىسىپ، بروه سۇرۇكەنە ھاي ئىسىپىن، ارى بروك و هدا أقربىيە سۇرۇك ھاي ئىسىپىن. بىرتۇه تۇدۇتىب بەلینايت ھەر، ملية لاكىن نات قات أكتىبىت توناتە.

²⁶ Ugaysari dehaay oon ootakiib naat sidik akantiibeet toonaati. Oon usabbi, barooh suurookna haay eesiisan, aree barook Whad'a Agriiba suurook haay eesiisan. Bariitooh tugadiyeetiib bhaliinayt har'i, malya laakiin naat gaat akantiibeet toonaati.

²⁷ تاك أبۈكىب إقۇبىيس باسوئىي، أقيسرە دهاي او فۇرق داپېنە كەنە.» ادے

²⁷ Tak abuukiib igwababees baasoo yay, Ugaysari dehaay uufduug daayiina kitti.» idi.